

## وقت کی قدر تکمیل یہ بڑی دولت ہے

محمد بشیر جعہ

دولت اور وقت دونوں انسان کے لئے نعمتیں ہیں۔ دولت ظاہری چیز ہے، یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہے۔ لیکن ہر انسان جسے زندگی کا ایک دن ملتا ہے اسے چوبیں سمجھنے ملتے ہیں، اور یہ چوبیں سمجھنے ہر انسان کو مساوی طور پر ملتے ہیں۔ مگر اسے یہ سمجھنے نظر نہیں آتے۔ فیشا غورث نے کہا ہے کہ ”انسان برسوں میں جوان ہوتا ہے۔ لیکن اگر وقت کو بہتر طریقہ پر صرف کرے تو سمجھنوں میں بوڑھا یعنی تجربہ کار ہو جاتا ہے۔“ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ ”انسان کو ہر وقت وہ بات سمجھنی چاہیے جس کے نہ جاننے سے اسے شرمندگی ہو۔“ حسن البدنا الشید فرماتے ہیں کہ ”وقت سوتا ہے،“ یہ بات ان لوگوں کے نقطہ نظر سے صحیح ہے جو ہر چیز کو مانعت کے پیمانے سے نہ پتے ہیں۔ لیکن وقت ان لوگوں کے لئے زندگی ہے جن کی نگاہیں اس سے بہت آگے تک دیکھتی ہیں۔ دانشمند لوگ اس بات کی توفیق ملتے ہیں کہ ہر کام اپنے صحیح وقت پر سرانجام پائے۔“

صوفیائے کرام فرماتے ہیں، وقت تکوار کی طرح ہے۔ حکما کا قول ہے کہ ”زمانہ سیال ہے، اسے کسی آن سکون نہیں۔“ خدا فرماتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے مگر انسان موت کا وقت نہیں جاتا۔ انبیاء کرام بھی نصیحت کرتے ہیں کہ وقت سے ہوشیار رہو، وقت کی خبر رکھو، وقت کو ہر بیان نہ کرو، وقت کو غیر مفید باتوں میں صرف نہ کرو۔ گھری گھری لختے لختے کا تمیس حاب و بنا پڑے گا۔ صدیوں کا تجربہ بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ دنیا میں جس قدر کامران و کامیاب ہستیاں گزری ہیں، ان کی کامیابی و ناموری کا راز سب سے بڑھ کر وقت کی قدر و قیمت اور اس کا صحیح استعمال ہے۔

سورہ عصر کی تحریر میں امام شافعیؓ نے وقت اور زمانے کے گزر جانے کی تمثیل برف

وقت کی قدر سمجھئے،

فروخت کرنے والے سے دی، جس کی برف مسلسل پکھل رہی ہے۔ اگر لوگ خرید لیتے ہیں تو وہ کمالیتا ہے، ورنہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہمیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے اپنی عمر اور جوانی کو کہاں صرف کیا، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور مال کون ذراائع سے کیا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ دعا کیا کرتے تھے کہ "اے اللہ، ہمیں کبھی انہیں سمجھے نہ رہئے دے، ہماری کوتایہوں پر ہمیں نہ پکڑ اور ہمیں وقت سے لاپرواں والا نہ ہنا"۔ "حضرت عمر فاروقؓ دعا کیا کرتے تھے کہ "اے اللہ، میرے لیے اوقات میں برکت فرماء اور انھیں صحیح صرف میں لانے کی توفیق دے"۔ حضرت جنید بغدادیؓ وقت اور احتساب کے بارے میں فرماتے تھے کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔

### تفسیع اوقات

ہمارے ہاں تفسیع اوقات کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق انسان کی ذات اور اس کی نفیات سے ہے، اور دوسرا کا تعلق ہمارے محاشرے سے ہے۔ اشارات کے ذریعے ہم تفسیع اوقات کی مختلف صورتیں واضح کرتے ہیں۔

- ۱ - ہر کام خود کرنے اور ہر چیز کا تجربہ کرنے کا مزاج تفسیع اوقات کا باعث ہوتا ہے۔ ہر کسی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور دوسروں کے تجربات اور صلاحیتوں سے مدد لینی چاہیے۔
- ۲ - مقبول بننے کے لیے ہر کام کرنے کا ناقابل عمل شوق بھی تفسیع اوقات کا باعث ہوتا ہے۔ جو کام کر سکتے ہیں اس کا وعدہ کرنا چاہیے، ورنہ معدودت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔
- ۳ - لوگ اکملیت اور کمال کے شوقیں ہوتے ہیں، اور اس شوق میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انسان کو زندگی کے لیے جو اگلا لمحہ ملا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی کا مشن اپنی سمجھیل کو نہیں پہنچا، پھر ہم اپنے کاموں کو اکملیت کے رجحان کی وجہ سے کیوں ادھورا جھوڑ دیں۔

- ۴ - بغیر مقصد، بغیر صلاحیت اور بغیر سمجھے کام کرنے سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔
- ۵ - طبیعت میں سستی، نال مثول اور موخر کرنے کی عادت تفسیع اوقات کا بہت بڑا باعث ہے۔

- ۶ - اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ کل کر لیں گے۔ یہ ایک دھوکا ہے۔ زاناؤں کی لفت میں کل

وقت کی قدر کجھے،

کا لفظ کبھی نہیں ملتا۔ البتہ بے وقوف کی جنزوں میں یہ کثرت سے سے ملتا ہے۔ یہ خیالی پلاو پکانے والوں کا سبара ہے۔ کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار اپاچ سکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عمر "کل" کا تعاقب کرتے ہوئے کھودی، اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے۔ ہم اس دھوکے میں ہاتھ پر درہرے بیٹھے رہے کہ "کل" ہمارے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور فائدہ منداشیا لائے گا، مگر اس کل کا ہیئت انتظار ہی رہے گا۔

۷۔ تضییعِ اوقات کا ایک اور سبب کاموں کو ادھورا چھوڑ دینا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی حالات میں اور کتنے وقت میں اس کام کو کرنا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس لحاظ سے پروگرام بنائے، ایک وقت میں ایک کام کو مکمل کرے۔

۸۔ اپنی ذات میں تنظیم کی کمی، اپنے جذبات پر قدرت کی کمی، اور گرد و پیش اور ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت کی کمی، بھی تضییعِ اوقات کا باعث ہوتی ہے۔

۹۔ معاملات پر مناسب توجہ نہ ہونا اور کسی کام کو کروانے کے لئے پیچھے نہ پڑنا، بھی تضییعِ اوقات کا باعث ہوتا ہے۔

۱۰۔ ہر طبقے والا فرد دوست نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر فرد کو اس کے اطمینان کی حد تک وقت دینا درست ہے۔

۱۱۔ گھروں اور دفتروں کے درمیان میلوں اور گھنٹوں کے فاصلے انسان کے وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں۔

۱۲۔ ہمارے ہاں کی دعویٰں بھی عموماً چار سے پانچ گھنٹے لے لیتی ہیں، اور پھر صہماںوں کے دریے سے آنے کا فیشن بھی تضییعِ اوقات کی وجہ بنتا ہے۔

۱۳۔ دفاتر میں تقسیم کار کی، اور افراد کی کمی، اور افراد کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں علم نہ ہونے، کے باعث وقت کافی ضائع ہوتا ہے۔ اختیارات اور ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہونا، اور مناسب دیکھ بھال کی کمی، ان اداروں میں سیاست کا باعث ہوتی ہے۔ یہ رفتہ رفتہ پورے ادارے کی کارکردگی تباہ کر دیتی ہے۔ مگر اس پر غور و خوض کا کوئی معقول بندوبست کیسی بھی نظر نہیں آتا، جس سے مزید وقت ضائع ہوتا ہے۔

۱۴۔ سفارشی افراد صرف کام چلانے کے لئے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے ہوتے ہیں، جس سے اداروں کا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ دوسری طرف اہل افراد کی بھی بہت سیکنی اور ناقدرتی ہوتی ہے۔

- وقت کی قدر بکھجئے،
- ۱۵۔ ہمارے سرکاری دفاتر میں طریقہ کاری بچید گیا، سرکاری افراد کی گپ شپ، اور اجتماعی چائے پینے کے موقع ضایع وقت کے اہم اسباب ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کے یومیہ لاکھوں سخنے غیر پیداواری کاموں میں صرف ہو جاتے ہیں اور حوماں بیکس تلے دیتے جاتے ہیں۔
- ۱۶۔ کرکٹ جیسے اشغال میں بھی ہماری قوم لاکھوں سخنے ضائع کرتی ہے۔
- ۱۷۔ ایڈ ہاک ازم اور بحران پیدا کر کے کام کرنے کا مزاج بھی اہل افراد کے لئے قصیع اوقات کا باعث ہوتا ہے، وقت اور الہیت کی قدر ضروری ہے۔
- ۱۸۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی کمی اور ذمہ داری لینے کے حوصلہ کی کمی بھی بہت سے کاموں کو ٹال دیتی ہے۔
- ۱۹۔ کافندی کارروائی اور فاکل بھی اس قوم کی ترقی پر بند باندھ رہی ہے۔
- ۲۰۔ حاضری اور کارکروگی کے شعور کی کمی بھی معاملات کو الجھادیتی ہے۔
- ۲۱۔ افراد کی تربیت نہ کرنا اور انھیں آئینہ کے کاموں کے لئے تیار نہ کرنا بھی اداروں کے اجتماعی اوقات کو ضائع کرتا ہے۔
- ۲۲۔ میلی فون کا غیر ضروری استعمال یا ضروری استعمال جس میں غیر ضروری باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ دوست احباب اور گھروالوں کے فون، اور ان کی فرمائیش، اور پھر بحث، یہ تمام قصیع اوقات کا باعث ہوتی ہے۔ فون بڑے کام کی اہم چیز ہے، موسم یا فیشن کی بحث کے لئے اس کا استعمال نقصان کے مترادف ہے۔
- ۲۳۔ اگر ہم اپنے مستقبل کی منصب بندی نہیں کرتے اور محض دفتر کی حاضری کے لئے کام کرتے ہیں تو ہم اچھی کارکروگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے۔
- کیا آپ وقت ضائع کرنے والوں میں سے ہیں؟  
 کسی بھی شخصیت میں درج ذیل علامتوں میں سے ایک یا ایک سے زائد پائی جائیں گی تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ شخصیت وقت کے استعمال کا صحیح شعور نہیں رکھتی۔ اسے اپنا جائزہ لیتا ہو گا تاکہ وہ آئینہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکے۔
- ۱۔ کبھی بھی اہم امور کو نہ نہانے کا وقت نہ ملنا۔
- ۲۔ فوری نوعیت کے امور پر زیادہ وقت صرف کرنا اور اہم تر کاموں کو منور کرتے رہنا۔
- ۳۔ دفتر میں دیر تک بیکار بیٹھے رہنا۔ حالانکہ وقت پر جا سکتے ہیں، کام وقت پر ختم کر سکتے ہیں، اور وقت کی پابندی ہو سکتی ہے۔

وقت کی قدر بچھے،

۴۔ دفتر کے کام کو گمر لے جانا۔ یہ بھی وقت شائع کرنے کے ذیل میں آتا ہے کیونکہ مگر،  
دفتر نہیں ہے۔

۵۔ کافندی کارروائی اور کافندات کے معاملات میں مال مشغول کرنا، اور تحریر کرنے کے لئے  
مناسب وقت اور مودع کا انتظار کرنا۔

۶۔ دوسروں کے کام کرتے رہنا اور اس میں خوشی محسوس کرنا، اپنے کاموں کے لئے بھائے  
خلاص کرتے رہنا۔

۷۔ یہ احساس کہ ہم تاگزیر ہیں اور ہمارے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا۔

۸۔ میشنکوں اور کانفرنسوں میں بہت زیادہ شرکت کرنا اور اپنے آپ کو تعلقاتِ عامہ کا  
چیپسٹ سمجھنا۔

۹۔ مخذرات کرنے میں عکف سے کام لینا، حالانکہ مخذرات کی جاسکتی ہو۔

۱۰۔ عموماً زیرِ ربان رہنا، پریشان رہنا اور وقت کی کسی کا ہشکار رہنا۔

۱۱۔ صحیح وقت پر کام ختم نہ کرنا۔

۱۲۔ بجلی، گیس، ٹیلی فون مل، لائسنس فیس وغیرہ صحیح وقت پر ادا نہ کرنا۔ گاؤں اور اسکوڑ  
میں بجلی، آئیں اور پانی ختم ہو جانا۔ بچوں اور الٰہ خانہ کو بیماری کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس  
لے جانے کے لئے وقت نہ ملننا۔

### دفتر اور کارروباری اوقات کا ضیاع

سعودی عرب کی ایک مسجد میں خطبہ جمعہ کے دوران الشیخ زہرانی نے کہا تھا: "آج میں آپ  
سے کام کے بارے میں منکلوں کوں گا: وہ عام کام جو ہم ملازمت کی صورت میں کرتے ہیں۔ اگر  
ہم مسلم اتنے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک بڑا فاصلہ نظر آتا ہے، کام کی اس نوعیت میں جو  
الله تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو حقیقت ہم اپنے وقار میں انجام دھے ہے ہیں۔" بعض حضرات اس کو  
کافی سمجھتے ہیں کہ وہ وقت پر دفتر آتے ہیں اور وقت پر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ وہ اس بات کی  
تکلیف گوارہ نہیں کرتے کہ یہ دیکھیں کہ ان دفتری اوقات میں ان کی کارکردگی کیسی رویہ۔ کیا وہ  
زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت ہوئے کار لائے، یا انہوں نے وقت کا ایک بڑا حصہ گپ  
شپ، غیر متعلق کاموں اور دیگر فضول مشاغل میں شائع کر دیا کہ یہ ایک طرح کی خیانت ہے اور  
یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قیمتی وقت اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیتوں کا بھی ضیاع ہے۔

## وقت کے بہتر استعمال کے لیے چند تجویز

ایک علی مقولہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص دروازہ کھلھاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی وقت کے بہتر استعمال کے ذریعہ کامیاب زندگی کے دروازے کو کھلھاتا شروع کر دیجیے۔ چند تجویز ہیں، ان کے ذریعہ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی سمجھیے۔ آپ کا رب شانِ کریمی سے آپ کی اس کوشش سے نکلنے والے پیغے کے قطروں کو موتنی بنادے گا۔

۱۔ فوری طور پر ان شخصوں کی فہرست تیار کیجیے جہاں آپ کا وقت صاف ہوتا ہے۔ سوچیے اور ایسے کاموں کو لکھ لیجیے۔

۲۔ جو کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں مگر آپ کر رہے ہیں ان کی بھی فہرست بنائیے۔

۳۔ جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ آپ خود کر رہے ہیں حالانکہ وہ دوسروں کو تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ انھیں بھی تحریر کیجیے۔

۴۔ اس کے علاوہ اپنے غیر تکمیل شدہ کاموں کی فہرست تیار کیجیے۔

۵۔ مگر اس سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ میں آپ کی زندگی کے نصب العین کا شعور ہو۔ آپ کے پاس اس کی قلیل المیعاد اور طویل المیعاد منصوبہ بندی ہو، اس صورت میں آپ کے وقت کی افادت زیادہ ہو گی۔

۶۔ اس کے علاوہ نفیاتی طور پر موڑ بننے کی کوشش کیجیے۔

۷۔ حاضری اور کارکردگی کے فرق کو سمجھیے، اور اس کے مطابق اپنی استعداد بڑھائیے۔ کم وقت میں بہتر طریقے استعمال کر کے زیادہ موڑ کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ سروالزاسکات نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ”ہوشیار رہو! اپنے دل میں کوئی ایسی رغبت پیدا نہ ہونے دو جو تمیں وقت رائیگاں کرنے والا بنا دے۔ جو کرنا ہے اسے فوراً کر ڈالو۔ کام کے بعد آرام کی خواہش دل میں آئے دو“۔ وقت، نصب العین، محنت، استقلال، مستعدی اور احتساب آپ کو چند روز میں شاہراہ کامیابی پر لے آئیں گے۔

۸۔ ہم آپ کو کوئی چارٹ تجویز نہیں کر رہے۔ کانٹر کے ٹکڑے یا کارڈز لے لیجیے۔ ان پر اپنے ہوئے کاموں کی الگ الگ فہرست بنائیجیے۔ ایک اور فہرست بنائیے ان کاموں کی جو آپ اس ہفتے میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری، ان کی جو اس مہینہ میں، اور تیسرا، ان کی جو اس سال میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔

وقت کی قدر سمجھئے،

۹۔ نصب العین اور مقصد زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یومیہ کاموں کی فرست بنائیے۔ ان کی ترجیحات تحریر سمجھیے، انھیں بہتر طور پر انجام دینے کے لیے وقت اور فاصلے کا ربط پیش نظر رکھیے۔ ہر کام کو ٹارگٹ اور ڈیٹ لائن دیجیے۔ وہ میں مختلف وقوف کے ساتھ اس فرست کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں ضروری ہو وہاں سرجری بھی سمجھیے۔

۱۰۔ اپنی شیم کی تشكیل سمجھیے، ان کی تربیت کا اہتمام سمجھیے۔ ان کے اختیارات اور ذمہ داریاں معین سمجھیے، اور پھر انھیں کام تفویض سمجھیے۔ ان کاموں کا جائزہ لیجیے اور پھر ان کی اصلاح سمجھیے۔ حوصلہ افزائی سمجھیے، تعریف سمجھیے، ترقی دیجیے اور ان کی حقیقی معنوں میں قدر سمجھیے کہ وہ آپ کے لیے "خزانہ" ہیں۔

۱۱۔ اپنے دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان عوامل کا پتہ لگائیے جو وقت کے نقصان کا باعث ہیں۔ جن کے ذمہ دار آپ ہیں وہ آپ خود دوڑ سمجھیے۔ باقی کے لیے آپ مشینٹ کے پاس جائیے۔ شروع میں تکلیف ہو گی مگر آپ یہ تو سوچیے کہ اس کے ذریعہ آپ نہ صرف اپنا اپنے مالک کا، اپنے ادارے کا، بلکہ ملک و قوم کا فائدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح آپ کا ہی فائدہ ہو گا، کیونکہ آپ اچھائی کے فروع کے کوشش ہیں۔

۱۲۔ اپنے بہترن وقت کا پتا لگائیے جب آپ بہترن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بس ان اوقات میں انتہائی اہم کاموں کو کرنے کی کوشش سمجھیے، تاکہ ان کا انجام بھی اچھا ہو۔

۱۳۔ اہم اور فوری کاموں کی تفہیق کر لیجیے۔ اہم کام زیادہ توجہ طلب ہیں۔ فوری کام رہنمائی کے بعد تفویض ہو سکتے ہیں۔

۱۴۔ ہر کام کو پایہ تتمیل تک پہنچانے کی عادت ڈالیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے کاموں کی فرست مختصر کرنی پڑے گی اور کئی کام دوسروں کو تفویض کرنے پڑیں گے۔

۱۵۔ آمد و رفت اور انتظار کے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی سمجھیے۔

۱۶۔ ٹیلی فون کا بہتر استعمال سمجھنے کی کوشش سمجھیے۔ "السلام عليکم" میں خیریت اور دعائیں شامل ہیں۔ مزید حال اور واقعات کے لیے ٹیلی فون کو استعمال نہ سمجھیے۔

۱۷۔ دفتر کو دفتر ہی میں چھوڑ کر آیے، مگر کو دفتر نہ بنایے۔

۱۸۔ افراد سے ملاقاتوں کے اوقات طے کر لیجیے۔ عموماً مخصوص اوقات ملاقاتوں کے لیے دیجیے۔ آپ کو بھی ان اوقات کا علم اور ملاقاتوں کو بھی احساس ہو۔ کھانے کی دعوتوں پر غیر ضروری گفتگو زیادہ ہوتی ہے اور کام کی گفتگو کم۔ اس کی افادیت کو پیش نظر رکھیے۔

۱۹۔ پیغام کی پرچیوں کا بہتر استعمال کریں۔ جو کام پیغام سے ہو سکتا ہے اس کے لیے بلانے اور خود جانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح آنے جانے میں بھی وقت صاف ہوتا ہے۔

۲۰۔ دفتر کے اوقات اگر صبح ۹ تا ۵ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ۹ بجے کام شروع اور ۵ بجے ختم کریں۔ لوگ ان اوقات کو صرف آنے اور روانہ ہونے کا وقت سمجھتے ہیں۔

۲۱۔ ٹال مثول یا موخر کرنا۔ یہ انسانی زندگی کی ترقی میں وہی کوارڈ ادا کرتی ہے جو کہ عام صحت کے لیے کینسر اور چپ دم۔ کاموں کو لے کر بیٹھ جانا اور ان پر فیصلہ نہ کرنا، سوچتے رہتا اور پکھ نہ کرنا، ایسے کاموں سے منہنے کے لیے ضروری ہے کہ:

☆ آپ اسے ایک شدید نقصان وہ عادت اور اپنا دشمن نمبر ایک تصور کریں۔

☆ ٹال مثول کی عادتوں کی فرست تیار سمجھیے، اور اس کے خلاف نفیاقی مسم شروع کیجیے۔

☆ ترجیحات متعین سمجھیے اور اس کے مطابق کام کیجیے۔

☆ وقت متعین سمجھیے اور اس میں کام ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔

☆ مشکل کاموں کو ایک طرف مت سمجھیے بلکہ چیلنج سمجھتے ہوئے کیجیے، انجام دیجیے۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے ابو امامہ سے پوچھا، کیا بات ہے میں تمیں مسجد میں اوقاتِ نماز کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نکریں اور کچھ قرضے ہیں جو بھے سے چھٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ تھماری نکر کو بھی دور فرمادے اور قرض بھی ادا کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، صبح و شام یہ پڑھ لیا کرو، اللہمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِ وَالْعُزُونِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ضَلَعِ الدَّهْنِ وَقَهْرِ الْوِجَالِ۔

”اے اللہ میں نکرو غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چارگی اور کالی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بھل اور بزوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے غلبے اور لوگوں کے تسلط سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

ابو امامہ بتاتے ہیں، جب میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری نکر بھی دور فرمادی اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔

مقروض انسان ادا نیکی قرض میں عموماً رقم ہونے کے باوجود تاخیر کرتا ہے۔ یہی نفیاقی بیاری عام طور پر کاموں سے منہنے میں بھی ہوتی ہے۔ یعنی وقت، صلاحیت اور وسائل کے باوجود ہم تاخیر

وقت کی قدر سمجھئے،

کرتے ہیں۔ پس مندرجہ بلا دعا باقاعدگی سے کرنے کے ساتھ ساتھ، قوتِ عمل بھی پیدا سمجھئے اور کاموں کا نمائے کی کوشش سمجھئے۔ اپنے آپ پر جبر سمجھئے اور ”ابھی اور فوراً“ کافار مولا اپنائیے۔

۲۲۔ ایک عادت یہ ہے کہ کچھ کام نہ ہوتے ہوئے بھی مصروفیت ظاہر کی جائے۔ یہ حضرات اپنے میز کو فائدوں سے بھرا رکھتے ہیں۔ اس غلط تصور سے چھٹکارا حاصل سمجھئے۔ بلکہ کام کو نمائے میں خوشی اور قابلیت محسوس سمجھئے۔

۲۳۔ فوری طور پر ردِ عمل کی عادت کو ترک سمجھئے۔ غصہ میں مت آئیے۔ بلکہ صحیح چیز پر، صحیح وقت اور صحیح طریقے پر غصہ کرنا سمجھئے۔ چونہ سرخ تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، مگر گری کو برداشت کرنا بہر حال ایک زیادہ بڑا کام ہے۔

۲۴۔ پوری لگن کے ساتھ سمجھئے۔ مگر کام کے دوران وقندہ بھی سمجھئے۔

۲۵۔ لوگوں سے مسکرا کر بات سمجھئے۔ لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ مت سمجھئے۔

۲۶۔ ہر کام کو اپنے اوپر سوار نہ سمجھئے۔

۲۷۔ اپنے فارغ اوقات کو بہتر طور پر استعمال سمجھئے۔ مطالعہ، کتب، اخبارات و رسائل، تعلیم بالفہل، دینی تعلیم، محلہ کے مسائل، مسجد، دعوت و تبلیغ، سکھیل کوڈ اور تربیتِ ذات کی طرف بھی توجہ دیجیے۔

اوارے کیا کریں

۱۔ وہ اپنے ملازمین کے اوقات کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ ان کا وقت شائع نہ ہو۔

۲۔ وہ اپنے ملازمین کو ان کی ذمہ داریوں اور اختیارات کے بارے میں ہائیں۔ بلکہ کاموں کی واضح تقسیم اور تشریع ہونی چاہیے۔

۳۔ وہ افراد و اوارے کے درمیان گفت و شنید اور رابطہ کے طریقہ کار کو بہتر اور پر صرف ہائیں۔

۴۔ ذمہ دار حکام کو چاہیے کہ وہ اداروں کے نالیں افراد کی جانب سے سکھیل جانے والی سیاست کا تدارک کریں، اور پاصلحیت افراد کو ان کی صلاحیت کے مطابق کام دیں اور تنقی دیں۔ ذمہ داران اس سلسلے میں انفرادی ملاقاتوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ اداروں میں شیم ورک پیدا ہو گا اور کارکردگی میں اضافہ ہو گا کیونکہ رابطہ کی سولت کے باعث کارکنوں کا اعتماد مختتم ہوتا ہے۔

یہ دعا مانگیے

میرا رب سب عیوب سے پاک ہے، بلند اور سب سے برتر، اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ میں پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کی جو مکمل و کافی ہیں (ان میں کوئی نقصان نہیں)، اس کی تمام پیدا کردہ مخلوق کے شر سے۔ اس کے نام کی برکت سے، جس کے نام سے نہ زین پر کوئی چیز نقصان پہنچائے نہ آسمان میں، اور وہ خوب سننے والا اور اچھی طرح جانے والا ہے، صبح کی ہم، اس حالت میں کہ ساری بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں۔ بس وہی ہے، اس کا کوئی شرک نہیں۔ ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اے رب، میں تجوہ سے وہ بھلائی جو اس دن میں ہے، اور جو اس کے بعد ہے، وہ سب مانگتا ہوں، اور جو برائی اس دن میں ہے، اور جو اس کے بعد ہے، اس سب سے تیری پناہ لیتا ہوں اے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں کلائل سے اور سخت بڑھاپے سے۔ اے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔

ان دعاؤں کو صبح کے اوقات میں پڑھنا یقیناً بہتر دن گزارنے کا باعث ہو گا، دعا ہے کہ ہم وقت، ملاحت، ذمہ داری اور حقوق کے قدر کرنے والے بن جائیں۔ آمین

## ماہنامہ ترجمان القرآن

کے سالانہ خریدار متوجہ ہوں

ترجمان القرآن کے سالانہ خریدار، جنہوں نے نقد یا پذیریہ وی پی ادائیگی کی ہے اور انھیں پرچہ نہیں مل رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے ہم، پتے (اور دیگر مکمل تفصیلات) سے مطلع کریں۔ انھیں گذشتہ پرچے ارسال کیے جائیں گے اور ان شاء اللہ آئینہ باقاعدگی سے ترسیل ہو گے۔ ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

میخچر

ترجمان القرآن

اردو بازار لاہور ۵۳۰۰۰